

کتاب سے وہ ازلamat دفع ہوں۔ ورنہ یاد کر کے کہ آج دین پر اسکا بہت بلا اثر ٹپہ ہاے۔

آپ علم دین کے حامل اور اسی سکھ طالب ہیں اسلئے آپ کی ہدایات سے اس کا انہیار ہونا چاہئے۔ آپ اپنی وضع قطع میں انگریزی تعلیم یا فتویٰ کی نقائی کی کوشش نہ کریں کہ وہ بیچارے خود و مسروں کے نقال ہیں بھرپور لفاظ کی نقلی چہ معنی؟ آج ظاہری یہم ٹام میں آپ جتنے منہک نظر آتے ہیں اپنی علمی بیانات مضبوط کرنے میں ویسی توجہ نہیں یہی وجہ ہے کہ آج بالکل علمار کا تحفظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو جگہ خالی ہوتی ہے پھر اسکے پر ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

معذرت حضرات ایں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے آپ سے معافی چاہتا ہیں کہ میں نے آپ کا بڑا وقت ضائع کیا۔ میں ممتنون ہوں کہ آپ نے خاموشی سے میری یہ بے ربط اور بے ترتیب باتیں سنیں۔ خامیوں سے درگذ فرمائیے اور اگر کوئی کام کی بات ہر تو یہ بیجئے ہے

کہ حکمت کو اک تم شدہ لال سمجھو ۴ جہاں پاؤ اپنا اُسے مال سمجھو

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين خطاب راجح

## عطاء الرحمن کی یہ ہے زراعت

(رازِ خباب ہولی بدر الحسن صاحب ہوانی)

اُسی کے سر ہے تاج اما مت  
عطاء الرحمن کی یہ ہے زراعت  
یہی دلی ہیں ہے بحر ہدایت  
مودود پاتے ہیں اس سے حلاوت  
یہی گلزار ہے گلزار سنت  
پیشی اس سے ہے حقاً کرامت  
کہ کامل کرتا ہے دین کی حیث  
یہ تازہ کرتا ہے ایمان واللہ  
بھری ہے کوٹ کر خالت نے رحمت ری  
دعا بر راحمن کی ہے اُسی  
فزا پکر ہے رایہ اُسی نزاں اس پرستائے تاقیامت  
دعا بر راحمن کی خدا ری  
عویدہ وال دل سے سکھ نسکا ہی